

ایک بھائی اور دو بہنوں کی جماعت کیسے کروائی جائے؟

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں گھر میں جماعت کروانا چاہتا ہوں شرکاء جماعت میرا بھائی اور دو بہنیں ہیں تو ان کو کیسے نماز پڑھاؤں؟

سائل: اسامہ فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اگر مسجد قریب ہے تو آپ دونوں بھائی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز بجلائیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اور اگر مسجد قریب نہیں یا کوئی اور مانع شرعی ہے تو گھر میں جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے اکیلے نماز پڑھنے سے اولیٰ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے بھائی کو اپنے دائیں جانب تھوڑا سا پیچھے کھڑا کریں اور بہنوں کو پچھلی صف میں کھڑا کریں۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 16-11-2017

HOW TO PERFORM JAMAAT WITH BROTHERS AND SISTERS

QUESTION:

What do the scholars and muftis of the mighty Shari'ah say regarding the following matter, I wish to establish the jamā'ah (congregational prayer) at home; the participants of the congregation are my brother and two sisters, how shall I lead them?

Questioner: Usaamah from England

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

If the masjid is nearby, then both of you brothers should pray with the jamā'ah at the masjid, as praying with the jamā'ah is wājib. If the masjid is not nearby or there is some other valid obstacle, then it is better to pray with the jamā'ah at home, rather than praying alone. The method is as follows: you should stand your brother to the right of and slightly behind yourself, and stand your sisters in the row behind.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كُتِبَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدٌ قَاسِمٌ ضِيَاءٌ قَادِرِي

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī

Translated by Zameer Ahmed